

Semuanya Kuserahkan Kepada-Mu

Persembahan

John Hayen

1=D, 3/4

S.	<u>0 5</u> <u>1 . 2</u> <u>3 . 4 . 6</u> <u>5 . 524</u> <u>3 . 3 . 2</u> <u>1 . 1</u> <u>4 . 5</u> 6 .
A.	<u>0 5</u> <u>1 . 1</u> <u>1 . 2 . 4</u> <u>3 . 321</u> <u>1 . 1 . 1</u> <u>5 . 5</u> <u>2 . 3</u> 4 .
T.	<u>0 1</u> <u>3 . 4</u> <u>5 . 6 . 1</u> <u>1 . 156</u> <u>5 . 5 . 4</u> <u>3 . 3</u> <u>6 . 7</u> 1 .
B.	<u>0 5</u> <u>5 . 5</u> <u>1 . 1 . 1</u> <u>1 . 171</u> <u>5 . 5 . 5</u> <u>5 . 5</u> <u>6 . 5</u> 1 .

1. Ke al- tar- Mu O Tu- han ki- ni ku- ba- wa per- sem- bah- an
 2. Kede- pan- Mu O Tu- han ki- ni ku- han- tar bu- ah kar- ya

S.	<u>4 . 3</u> 2 5 2 <u>3 .. 30 5</u> <u>1 . 2</u> 3 . 4 . 6 <u>5 . 524</u> 3 .
A.	<u>2 . 1</u> 7 3 7 <u>1 .. 10 5</u> <u>1 . 1</u> 1 . 2 . 4 <u>3 . 324</u> 1 .
T.	<u>6 . 6</u> 4 3 4 <u>5 .. 50 1</u> <u>3 . 5</u> 5 . 6 . 1 <u>1 . 156</u> 5 .
B.	<u>1 . 1</u> 7 5 6 <u>5 .. 50 5</u> <u>5 . 5</u> 1 . 1 . 1 <u>1 . 171</u> 1 .

1. nan su- ci mu- li- a. De- ngan ha- ti yang ikh- las pe- nuh
 2. ta- ngan nan in- dah. De- ngan se- ber- do- a se- rang

S.	<u>3 . 2</u> 1 . 1 <u>4 . 5</u> 6 . 6 . 6 5 . 5 <u>4 . 3</u> 2 . <u>232</u> <u>1 .. 1</u>
A.	<u>1 . 1</u> 5 . 5 <u>2 . 3</u> 4 . 4 . 4 3 . 3 <u>2 . 1</u> 7 . <u>767</u> <u>1 .. 1</u>
T.	<u>5 . 4</u> 3 . 3 <u>6 . 7</u> 1 . 1 . 1 7 . 7 <u>6 . 6</u> 5 . <u>454</u> <u>3 .. 3</u>
B.	<u>5 . 5</u> 5 . 5 <u>6 . 5</u> 1 . 1 . 1 1 . 1 <u>6 . 4</u> 5 . <u>565</u> <u>1 .. 1</u>

1. ha- rap- an se- mo- ga ber- ke- nan- lah Di- kau me- ne- rima- nya.
 2. kai ka- ta se- mo- ga ber- ke- nan- lah Di- kau me- ngu- duskan- nya.

S.	0 <u>1 . 1</u> 7 . 7 <u>7 . 7</u> 6 7 . 6 <u>4 . 6</u> 5 . <u>454</u> 3 . ' <u>1 . 1</u>
A.	0 <u>5 . 5</u> 5 . 5 <u>5 . 5</u> 4 5 . 5 <u>2 . 4</u> 3 . <u>232</u> 1 . ' <u>5 . 5</u>
T.	0 <u>3 . 3</u> 2 . 2 <u>2 . 2</u> 1 2 . 1 <u>6 . 1</u> 7 . <u>676</u> 5 . ' <u>3 . 3</u>
B.	0 1 . 1 2 . 2 <u>2 . 7</u> 1 1 . 1 <u>6 . 6</u> 5 . <u>654</u> 5 . ' <u>1 . 1</u>

1. Se- lu- ruh ji- wa ra- ga se- ga- la kar- ya usa- ha. se- lu-
 2. Se- ge- nap ke- re- sah- an, se- ga- la ra- sa kece- wa. se- ge-

S.	7 . 7 <u>7 . 7</u> 6 7 . 7 <u>4 . 6</u> 5 . <u>454</u> 3 . ' <u>1 . 2</u> 3 . 3
A.	5 . 5 <u>5 . 5</u> 4 5 . 4 <u>3 . 4</u> 3 . <u>232</u> 1 . ' <u>1 . 1</u> 1 . 1
T.	2 . 2 <u>2 . 2</u> 1 2 . 1 <u>6 . 1</u> 7 . <u>676</u> 5 . ' <u>3 . 4</u> 5 . 5
B.	2 . 2 <u>2 . 7</u> 1 1 . 1 <u>6 . 6</u> 5 . <u>654</u> 5 . ' <u>5 . 5</u> 1 . 1

1. ruh ci- ta ha- srat se- ga- la du- ka deri- ta s' mu- a- nya ku-
 2. nap ke- pu- as- an se- ga- la ra- sa baha- gia s' mu- a- nya ku-

S.	<u>321</u> 2 . 5 <u>321</u> 1 .. 10 <u>1 . 2</u> 3 . 3 <u>321</u> 2 . 5 <u>321</u> <u>1 .. 1 .. 1</u>
A.	<u>121</u> 7 . 5 <u>123</u> 1 .. 10 <u>1 . 1</u> 1 . 1 <u>121</u> 7 . 5 <u>121</u> <u>1 .. 1 .. 1</u>
T.	<u>543</u> 4 . 2 <u>543</u> 3 .. 30 <u>3 . 4</u> 5 . 5 <u>543</u> 4 . 3 <u>543</u> <u>3 .. 3 .. 3</u>
B.	<u>176</u> 5 . 5 <u>565</u> 1 .. 10 <u>5 . 5</u> 1 . 1 <u>176</u> 5 . 5 <u>565</u> <u>1 .. 1 .. 1</u>

1-2 serah- kan ke- pada- Mu s' mu- a- nya ku- serah- kan ke- pada- Mu